




- III Level 3
- ◎ Urdu / English
- Samrina Sana
- Magriet Brink
- Winny Asara
- Winny Asara



Chicken and Millipede

لڑکا، لگبڑا

چیکن اور میلپیدے

storybookscanada.ca

Storybooks Canada




This work is licensed under a Creative Commons



Attribution 3.0 International License.
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>
 This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.

Written by: Winny Asara
 Illustrated by: Magriet Brink
 Translated by: (ur) Samrina Sana




چوزی اور ہزارپا دوست تھے۔ لیکن وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔ ایک دن ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے درمیان ایک فٹ بال کا مقابلہ ہو گاتا کہ پتہ چل سکے کہ کون بہترین کھلاڑی ہے۔

...

Chicken and Millipede were friends. But they were always competing with each other. One day they decided to play football to see who the best player was.

They went to the football field and started their game. Chicken was fast, but Millipede was faster. Chicken kicked far, but Millipede kicked further. Chicken started to feel grumpy.

•






انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جرمانے کی باری لیں گے۔ پہلی بار میں ہزار پا
گول کیپر بننا۔ چوزی نے ایک گول کیا پھر چوزی کی باری تھی کہ وہ گول
روکے۔

...

They decided to play a penalty shoot-out. First Millipede was goal keeper. Chicken scored only one goal. Then it was the chicken's turn to defend the goal.



اس وقت سے چوزے اور ہزار پا دشمن ہیں۔


...

From that time, chickens and millipedes were enemies.

Millipede kicked the ball and scored. Millipede dribbled the ball and scored. Millipede headed the ball and scored. Millipede scored five goals.

...

-تُرْجِعُهُنَّا-تُرْجِعُهُنَّا، وَمُرْجِعُهُنَّا-تُرْجِعُهُنَّا
جُرُّهُنَّا، وَمُرْجِعُهُنَّا-تُرْجِعُهُنَّا، وَمُرْجِعُهُنَّا-




Chicken coughed until she coughed out the millipede that was in her stomach. Mother Millipede and her child crawled up a tree to hide.

...

-جُرْجِيَّهُنَّا-جُرْجِيَّهُنَّا، وَجُرْجِيَّهُنَّا-جُرْجِيَّهُنَّا
جُرْجِيَّهُنَّا، وَجُرْجِيَّهُنَّا-جُرْجِيَّهُنَّا، وَجُرْجِيَّهُنَّا-





چوزی غصے میں تھی وہ بڑی طرح سے ہاری تھی۔ ہزار پا ہنسنا شروع ہو گیا
کیونکہ اُس کی دوست نے بہت ہنگامہ کیا تھا۔

...

Chicken was furious that she lost. She was a very bad loser. Millipede started laughing because his friend was making such a fuss.

چوزی نے ڈکار لیا اور تھوکا۔ پھر وہ چھینکی اور کھانسی۔ ہزار پا بہت گندہ تھا!

...

Chicken burped. Then she swallowed and spat. Then she sneezed and coughed. And coughed. The millipede was disgusting!



Chicken was so angry that she opened her beak wide and swallowed the millipede.

...


-عَنْتَ أَنْتَ بِمَنْ يَأْتِي مَنْ يَأْتِي عَنْتَ أَنْتَ بِمَنْ يَأْتِي



Mother Millipede shouted, "Use your special power my chilid!" Millipedes can make a bad smell and a terrible taste. Chicken began to feel ill.

...

-عَنْتَ أَنْتَ بِمَنْ يَأْتِي مَنْ يَأْتِي عَنْتَ أَنْتَ بِمَنْ يَأْتِي





جیسے چوزی گھر کی طرف جا رہی تھی وہ ہزار پاکی ماں سے ملی۔ ہزار پاکی ماں نے پوچھا کیا تم نے میرے بچے کو دیکھا ہے؟ چوزی نے کچھ نہیں کہا۔ ہزار پاکی ماں بہت پریشان تھی۔

...

As Chicken was walking home, she met Mother Millipede. Mother Millipede asked, "Have you seen my child?" Chicken didn't say anything. Mother Millipede was worried.



ہزار پاکی ماں نے ایک چھوٹی سی آواز سنی میری مدد کرو ماں! روئی ہوئی آواز آئی۔ ہزار پاکی ماں نے اوہر ادھر دیکھا اور غور سے سنا۔ آواز چوزی کے اندر سے آ رہی تھی۔

...

Then Mother Millipede heard a tiny voice. "Help me mom!" cried the voice. Mother Millipede looked around and listened carefully. The voice came from inside the chicken.